

English Translation Test-1

Time Allowed: 40Minutes

Note:

1. Assignment must be handwritten.
2. Upload it in "Quiz/Assignment" section, otherwise it will not be checked.

Name: _____	Batch: _____
Campus: _____	

Q. Translate the following into English, keeping in view the idiomatic/figurative expression.
(10)

اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی، اگر اللہ کے خوف سے آپکی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر دوزخ کا تصور آپ میں خوف خدا پیدا کرتا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت اسطرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، اگر نیکی آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور آپ کے پاؤں برائی کے راستے پر جانے سے رک جاتے ہیں تو پھر آپ صالح ہیں۔ کچھ صالح ہوتے ہیں، کچھ صالح بنتے ہیں۔ صالح ہونا خوش قسمتی کی بات ہے۔ صالح بننا مسلسل تذکیہ اور مجاہدے کا عمل ہے۔ اس میں وقت لگتا ہے اور تکلیفیں بھی سہنا پڑتی ہیں۔

Translate the following in English.

If world does not tempt you, if tears flow from your eyes in the awe of Allah, if ^{if} creating a mental image of hell instills fears in ^{you} you,

If you devote yourself to God in such a way as you should do, if virtue entices you on its own accord, ^{and you refuse to walk the path of sin, then you are righteous.} your refusal to walk

the path of sin exemplifies your piety. Some are inherently pious, others strive to become pious. Being pious is considered ~~as~~ great fortunate. Attaining piety demands the purification of one's being and persistent ^{endeavour} endeavor of spiritual striving.

This process requires ~~the acceptance of time it takes and entails~~ enduring hardships.

4